

دوسری صورت میں، آسٹریلین فیڈرل پولیس (Australian Federal Police - AFP) ان لوگوں کو ابتدائی مدد فراہم کر سکتی ہے جن کی جبری شادی ہو چکی ہو یا جنہیں اس کا خطرہ ہو۔ اگر آپ چاہیں تو گمنام رہتے ہوئے AFP سے رابطہ کر سکتے ہیں۔

آپ AFP 131 (131 237) پر فون کر سکتے ہیں یا اس پتے پر آن لائن فارم مکمل کر سکتے ہیں www.afp.gov.au۔

آپ رازدارانہ مشورے کیلئے Anti-Slavery Australia (غلامی کے خلاف آسٹریلیا) سے بھی فون نمبر 02 9514 9662 پر یا اس ای میل ایڈریس پر رابطہ کر سکتے ہیں antislavery@uts.edu.au۔



جبری شادی کو جرم قرار دینے والا قانون آسٹریلیا میں انجام پانے والی تہذیبی، مذہبی یا قانونی شادیوں پر لاگو ہوتا ہے (جس میں یہ بھی شامل ہے کہ کسی شخص کی شادی کروانے کیلئے اسے آسٹریلیا لایا جائے) اور یہ ان صورتوں میں بھی لاگو ہوتا ہے جن میں ایک شخص کی شادی کروانے کیلئے اسے آسٹریلیا سے باہر لے جایا جائے۔

اگر آپ کی یا آپ کے کسی واقف کی جبری شادی ہو چکی ہے یا آپ کو یا آپ کے کسی واقف کو جبری شادی کا خطرہ ہے تو مدد دستیاب ہے۔

اگر فوری خطرہ ہو تو ٹریپل زیرو پر فون (000) کو فون کریں۔

جبری شادی یا زبردستی کی شادی اسے کہتے ہیں جب ایک شخص اپنی آزادانہ اور مکمل مرضی کے بغیر شادی کرے کیونکہ اسے مجبور کیا گیا ہے، دھمکایا گیا ہے یا دھوکہ دیا گیا ہے۔

عمر، صنف، جنسی رجحان یا مذہبی یا تہذیبی پس منظر سے قطع نظر، کوئی بھی شخص جبری شادی کا نشانہ بن سکتا ہے۔



An Australian Government Initiative

جبری شادی کے بارے میں مزید
جاننے کیلئے اور مدد مانگتے
ہوئے خود کو اور دوسروں کو
محفوظ رکھنے کی تدابیر کے
بارے میں جاننے کیلئے یہاں
دیکھیں www.ag.gov.au/forcedmarriage

آپ 131 450 پر تحریری اور
زبانی ترجمے کی سروس (TIS)
سے رابطہ کر سکتے ہیں۔

Urdu

آسٹریلیا میں ہر شخص یہ
انتخاب کرنے کیلئے آزاد
ہے کہ آیا وہ شادی کرنا
چاہتا ہے اور کس سے
اور کب شادی کرنا چاہتا
ہے۔ کسی کو شادی کرنے
پر مجبور کرنا آسٹریلیا
کے قانون کے تحت جرم
ہے اور انسانی حقوق کی
پامالی ہے۔

جبری شادی